



سوال

(675) نذر کو نیت کے مطابق پورا کرنا چاہئے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں نے نذرمانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جدوجہد کے مطابق مال عطا فرمادیا تو میں ایک جامع مسجد بنانے کیلئے اس قدر مال خرچ کروں گا اس مال کا تعین میں نے اپنے دل میں کر لیا تھا اور نذر کے دن میرا یہ خیال تھا کہ یہ رقم مسجد بنانے کے لئے کافی ہوگی۔ کئی سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری خواہش کو پورا کر دیا لہذا میں اپنی نذر کو پورا کرنا چاہتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ جس رقم کے خرچ کرنے کی میں نے نیت کی تھی کرنسی کی قدر کم ہونے کی وجہ سے اب اس سے مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی لہذا اگر میں اس رقم کو رشتہ دار اور غیر رشتہ دار محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ کر دوں یا کسی ایسی فلاحی تنظیم کو دے دوں جو اسے کسی نامکمل مسجد کی تکمیل کیلئے خرچ کر دے تو کیا یہ جائز ہے؟ رہنمائی فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

آپ کیلئے واجب ہے کہ نذر کو پورا کریں اور حسب طاقت مسجد تعمیر کریں اور اگر آپ کا ارادہ ایسی جامع مسجد کی تعمیر کا تھا جس میں نماز جمعہ بھی ادا کی جائے تو آپ کیلئے ایسی ہی مسجد کی تعمیر واجب ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

«مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطْبِخَ اللَّهُ فَيْطَبُخَ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَغْضِبَ فَلَا يَغْضِبُ»۔ (صحیح بخاری)

”جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذرمانی تو اسے چاہئے کہ وہ اطاعت کرے اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نذرمانی تو اسے نافرمانی والا کام نہیں کرنا چاہئے۔“

آپ کو چاہئے کہ کوشش کریں اور اپنی نذر کو مکمل طور پر ادا کریں اور اگر آپ کی نیت ایک معین رقم خرچ کرنے کی تھی تو پھر آپ پر اسی رقم کا خرچ کرنا واجب ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَاتَّمَلِ كُلَّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ عِزَّتُهُ دُنْيَا يَغْضِبُنَا، أَوْ لِي أَوْ يَغْضِبُنَا، فَعِزَّتُهُ لِي أَوْ يَغْضِبُنَا، فَعِزَّتُهُ لِي أَوْ يَغْضِبُنَا»۔ (صحیح بخاری)

”تمام اعمال کا دارودار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کیلئے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔“

اگر اس رقم کے ساتھ مکمل مسجد تعمیر نہ ہو سکتی ہو تو کسی دوسرے کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال لیں کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:



فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ ۝۱۱ ... سورة التتامن

”سو جهاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو“

اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی کرے اور فرض سے عمدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 3 ص 539

محدث فتویٰ